



## آنٹیریو میں کاروبار (ٹریڈز) کرنے کے ضوابط

آنٹیریو کالج آف ٹریڈز (دی کالج) یہ یقینی بناتا ہے کہ مطلوبہ کاروبار میں کام کرنے والے افراد کے پاس آنٹیریو میں قانونی طور پر یہ کاروبار کرنے کے لئے درکار تربیت اور سند موجود ہو۔

کسی مطلوبہ کاروبار میں قانونی طور پر کام کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اہلیت کی ایک سند ہو (سی آف کیو) یا آپ بطور زیر تربیت (اپریٹس) کی طرح رجسٹرڈ ہوں، اور آپ لازمی طور پر آنٹیریو کالج آف ٹریڈز کے رکن ہوں۔

مطلوبہ کاروبار یہ ہیں:

- ہوسٹنگ انجینئر - ٹاور کرین آپریٹر
- موٹرسائیکل ٹیکنیشن
- پلمبر
- ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ سسٹمز میکانک
- ربائشی (کم اونچے) شیٹ میٹل انسٹالر
- ربائشی ایئر کنڈیشننگ سسٹمز میکانک
- شیل میٹل ورکر
- اسٹیم فٹر
- ٹرانسمیشن ٹیکنیشن
- ٹرک اور کوچ ٹیکنیشن
- ٹرک - ٹریلر سروس ٹیکنیشن
- الانمنٹ اینڈ بریکس ٹیکنیشن
- آٹو باڈی اینڈ کولیشن ڈیمیک مسٹری
- آٹو باڈی مسٹری
- آٹوموٹو الیکٹرانک اسپیری ٹیکنیشن
- آٹوموٹو سروس ٹیکنیشن
- الیکٹریشن - تعمیرات اور رکھ رکھاؤ
- الیکٹریشن - گھریلو اور دیہی
- فیول اینڈ الیکٹریکل سسٹمز ٹیکنیشن
- پیئر اسٹائلسٹ
- ہوسٹنگ انجینئر - موبائل کرین آپریٹر 1
- ہوسٹنگ انجینئر - موبائل کرین آپریٹر 2

## کسی مطلوبہ کاروبار کی مطابقت میں اور قانونی طور پر کیسے کام کریں

### انتخاب 1: کیا آپ کے پاس کسی ہنروالے کاروبار کا تجربہ اور قابلیت ہے؟

#### ٹریڈ ایگویولنسی اسسمنٹ (TEA) کے لیے درخواست دیں

یہ جائزہ آپ کی تربیت اور تجربے کو دیکھے گا، اور یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا آپ اپنے کاروبار سے متعلق اہلیت کی سند (سی آف کیو) کا امتحان دے سکتے ہیں۔ اگر منظوری مل جاتی ہے، اور آپ اپنے کاروبار کے ضوابط کی مطابقت میں تجربہ حاصل کر لیتے ہیں تو، آپ اہلیت کے عارضی سرٹیفکٹ کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ یہ سرٹیفکٹ آپ کو اپنے پیشے میں قانونی طور پر 90 دنوں تک کام کرنے کی اجازت دے گا دریں اثناء آپ اہلیت کی سند (سی آف کیو) کا امتحان دیں۔

براہ کرم ٹریڈ ایگویولنسی اسسمنٹ اینڈ ممبرشپ اپلیکیشن، مکمل کر کے آغاز کریں جو اس پتے پر دستیاب ہے [www.collegeoftrades.ca](http://www.collegeoftrades.ca)۔ اس کی ناقابل واپسی فیس 200 ڈالر + بارموناڈ سیزل ٹیکس ہے۔

ایک گائیڈ دستیاب ہے جو درخواست کے طریق کار اور ان دستاویزات اور معلومات کی تفصیلات فراہم کرتا ہے جو آپ کے لیے جمع کروانا ضروری ہے۔ آپ کو اپنی درخواست کی حمایت کے لیے آجران سے کام کے تجربے کے ثبوت بشمول دیگر اسناد فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

## انتخاب 2: کیا آپ کو کسی بنروالے کاروبار کے لئے تربیت اور تجربہ کی ضرورت ہے؟

### بطور زیر تربیت (فرد) (اپرنٹیس) اندراج کروائیں

زیر تربیت ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی تجربے کار کاریگر کے ساتھ کام کر کے اور اس سے تربیت حاصل کر کے کوئی ہنر والا کاروبار سیکھتا ہے۔ کار آموزی (اپرنٹیس شپ) میں "ملازمت کے دوران" تربیت اور "کلاس میں" تربیت دونوں عناصر شامل ہوتے ہیں۔ بطور زیر تربیت کام کرتے ہوئے، آپ کو معاوضہ ملتا ہے اور اس کاروبار میں زیر نگرانی کام کرنے کی قانونی اجازت ہوتی ہے۔

1. ایسا آجر تلاش کریں جو آپ کو تربیت دینا چاہتا ہو۔ کسی کارآموزی والی ملازمت کی تلاش بھی دیگر ملازمت کی تلاش کی طرح ہی ہے۔

2. ایک رجسٹرڈ تربیتی معاہدے پر دستخط کریں (اپنے آجر اور تربیت، کالج اور یونیورسٹیوں کی وزارت کے ساتھ)۔

3. بطور ممبر برائے کالج آف ٹریڈز کی اپرنٹیسز کلاس میں شامل ہوں۔

4. کارآموزی کی سند حاصل کریں (سی آف اے) اپنی تربیت مکمل کر لینے کے بعد۔

5. اپنے اہلیت کی سند (سی آف کیو) امتحان کا وقت مقرر کریں، جب آپ، ملازمت اور کلاس میں اپنی تربیت کے گھنٹے مکمل کر لیتے ہیں۔

6. اہلیت کی سند (سی آف کیو) کا امتحان دیں اور پاس کریں۔ امتحان پاس کرنے کا نمبر 70% یا زیادہ ہے۔ پاس ہونے پر آپ اہلیت کی سند (سی آف کیو) کے اہل ہوں گے۔

7. انٹیریو کالج آف ٹریڈز میں بطور رکن برائے کاریگران کی کلاس اندراج کروائیں اور اپنا اہلیت کی سند (سی آف کیو) حاصل کریں۔

اگر آپ اہلیت کی سند (سی آف کیو) امتحان پاس کیے بغیر کسی لازمی پیشہ میں کام کرنا جاری رکھتے ہیں تو، آپ قانون شکنی کر رہے ہیں، اور آپ کے خلاف انٹیریو کالج آف ٹریڈز اینڈ اپرنٹیس شپ ایکٹ 2009 کے تحت تادیبی کارروائی کی جائے گی اور/یا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔

TEA براہ کرم درخواست یا کارآموزی کے طریق کار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، کالج سے 647-847-3000 (GTA) میں) یا 1-855-299-0028 (ٹول فری) پر رابطہ کریں